

10713 - عمرہ یا حج میں سر کے کچھ بال کٹوانے

سوال

ایک شخص نے عمرہ کی ادائیگی کے بعد سر کی ایک جانب سے بال کٹوائے اور اپنے گھر واپس پلٹ آیا اور اسے علم ہوا کہ اس کا یہ فعل صحیح نہیں تھا، اب اس پر کیا لازم آتا ہے؟

پسندیدہ جواب

الحمد لله.

یہ سوال فضیلۃ الشیخ محمد بن عثیمین رحمہ کے سامنے رکھا گیا تو ان کا جواب تھا :

اگر تو اس نے ایسا جہالت کی بنا پر کیا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اب اپنا لباس اتار کر احرام پہن لے اور مکمل سر کومنڈائے یا مکمل سر کے بال چھوٹے کروائے تو اس طرح اس نے جو کیا وہ معاف ہوگا کیونکہ اس نے یہ عمل جہالت کی بنا پر کیا تھا ، اور سر منڈانے یا بال چھوٹے کروانے کے لیے شرط نہیں کہ وہ مکہ میں ہی ہو بلکہ مکہ یا کسی دوسری جگہ پر بھی ہوسکتا ہے .

لیکن اگر اس نے ایسا کسی عالم کے فتویٰ کی بنا پر کیا تو اس حالت میں بھی اس پر کچھ لازم نہیں آتا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے : **اگر تمہیں علم نہیں تو اہل علم سے پوچھ لو**

اور بعض علماء کی رائے ہے کہ سر کے کچھ حصہ کے بال کٹوانے مکمل سر کے بال کٹوانے کی طرح ہی ہے .